

ARABIC VERB CONJUGATOR

آمَنَ
يُؤْمِنُ

Believe

VERBAL NOUN (MASDAR)

إِيمَانًا

إيمان

Root: أ م ن

PAST آمَنَ اس نے ایمان لایا	PRESENT يُؤْمِنُ وہ ایمان لاتا ہے	MASDAR إِيمَانًا ایمان	ISM FA'IL مُؤْمِنٌ مومن / ایمان والا	ISM MAFOOL مُؤْمِنٌ بِهِ جس پر ایمان لایا گیا
-----------------------------------	-----------------------------------------	------------------------------	--------------------------------------------	-----------------------------------------------------

PAST TENSE

الماضي

الضمير	الفعل	ضمير	ترجمہ
هُوَ	آمَنَ	وہ (ایک مرد)	اس ایک مرد نے ایمان لایا
هُمَا	آمَنَّا	وہ (دو مرد)	ان دو مردوں نے ایمان لایا
هُمْ	آمَنُوا	وہ (سب مرد)	ان سب مردوں نے ایمان لایا
هِيَ	آمَنَتْ	وہ (ایک عورت)	اس ایک عورت نے ایمان لایا
هُمَا	آمَنَتَا	وہ (دو عورتیں)	ان دو عورتوں نے ایمان لایا
هِنَّ	آمَنْنَ	وہ (سب عورتیں)	ان سب عورتوں نے ایمان لایا
أَنْتَ	آمَنْتَ	تم (ایک مرد)	تم ایک مرد نے ایمان لایا
أَنْتِمَا	آمَنْتُمَا	تم (دو مرد/عورتیں)	تم دونوں نے ایمان لایا
أَنْتُمْ	آمَنْتُمْ	تم (سب مرد)	تم سب مردوں نے ایمان لایا
أَنْتِ	آمَنْتِ	تم (ایک عورت)	تم ایک عورت نے ایمان لایا
أَنْتُمَا	آمَنْتُمَا	تم (دو عورتیں)	تم دونوں عورتوں نے ایمان لایا
أَنْتُنَّ	آمَنْتُنَّ	تم (سب عورتیں)	تم سب عورتوں نے ایمان لایا
أَنَا	آمَنْتُ	میں	میں نے ایمان لایا
نَحْنُ	آمَنَّا	ہم	ہم نے ایمان لایا

PRESENT / FUTURE

المضارع

الضمير	الفعل	ضمير	ترجمہ
هُوَ	يُؤْمِنُ	وہ (ایک مرد)	وہ ایک مرد ایمان لاتا ہے
هُمَا	يُؤْمِنَانِ	وہ (دو مرد)	وہ دو مرد ایمان لاتے ہیں
هُمْ	يُؤْمِنُونَ	وہ (سب مرد)	وہ سب مرد ایمان لاتے ہیں

ترجمہ	ضمیر	الفعل	الضمیر
وہ ایک عورت ایمان لاتی ہے	وہ (ایک عورت)	تُؤْمِنُ	هِيَ
وہ دو عورتیں ایمان لاتی ہیں	وہ (دو عورتیں)	تُؤْمِنَانِ	هُمَا
وہ سب عورتیں ایمان لاتی ہیں	وہ (سب عورتیں)	يُؤْمِنَنَّ	هُنَّ
تم ایک مرد ایمان لاتے ہو	تم (ایک مرد)	تُؤْمِنُ	أَنْتَ
تم دونوں ایمان لاتے ہو	تم (دو مرد/عورتیں)	تُؤْمِنَانِ	أَنْتُمَا
تم سب مرد ایمان لاتے ہو	تم (سب مرد)	تُؤْمِنُونَ	أَنْتُمْ
تم ایک عورت ایمان لاتی ہو	تم (ایک عورت)	تُؤْمِنِينَ	أَنْتِ
تم دونوں عورتیں ایمان لاتی ہو	تم (دو عورتیں)	تُؤْمِنَانِ	أَنْتُمَا
تم سب عورتیں ایمان لاتی ہو	تم (سب عورتیں)	يُؤْمِنَنَّ	أَنْتِ
میں ایمان لاتا/ لاتی ہوں	میں	أُؤْمِنُ	أَنَا
ہم ایمان لاتے ہیں	ہم	نُؤْمِنُ	نَحْنُ

IMPERATIVE

الأمر والنهي

POSITIVE		الأمر	NEGATIVE		النهي
الضمیر	الفعل	ترجمہ	الضمیر	الفعل	ترجمہ
أَنْتَ	آمِنْ	تم ایمان لاؤ (مذکر واحد)	أَنْتَ	لَا تُؤْمِنْ	تم ایمان مت لاؤ (مذکر واحد)
أَنْتُمَا	آمِنَا	تم دونوں ایمان لاؤ	أَنْتُمَا	لَا تُؤْمِنَا	تم دونوں ایمان مت لاؤ
أَنْتُمْ	آمِنُوا	تم سب ایمان لاؤ (مذکر جمع)	أَنْتُمْ	لَا تُؤْمِنُوا	تم سب ایمان مت لاؤ (مذکر جمع)
أَنْتِ	آمِنِي	تم ایمان لاؤ (مؤنث واحد)	أَنْتِ	لَا تُؤْمِنِي	تم ایمان مت لاؤ (مؤنث واحد)
أَنْتُمَا	آمِنَا	تم دونوں ایمان لاؤ (مؤنث)	أَنْتُمَا	لَا تُؤْمِنَا	تم دونوں ایمان مت لاؤ (مؤنث)
أَنْتِ	آمِنَنَّ	تم سب ایمان لاؤ (مؤنث جمع)	أَنْتِ	لَا يُؤْمِنَنَّ	تم سب ایمان مت لاؤ (مؤنث جمع)

الجدول الإسنادي — الماضي

RELATIONAL MAPPING — PAST

هو		وه (ایک مرد)
نِي	آمَنِي	اس نے مجھے ایمان لایا
نَا	آمَنَّا	اس نے ہمیں ایمان لایا
كَ	آمَنَكَ	اس نے تمہیں (ایک مرد) ایمان لایا
كُمَا	آمَنَكُمَا	اس نے تم دونوں کو ایمان لایا
كُم	آمَنَكُم	اس نے تم سب (مردوں) کو ایمان لایا
كَ	آمَنَكَ	اس نے تمہیں (ایک عورت) ایمان لایا
كُنَّ	آمَنَكُنَّ	اس نے تم سب (عورتوں) کو ایمان لایا
هُ	آمَنَهُ	اس نے اسے (ایک مرد) ایمان لایا
هُمَا	آمَنَهُمَا	اس نے ان دونوں کو ایمان لایا
هُمْ	آمَنَهُمْ	اس نے ان سب (مردوں) کو ایمان لایا
هَا	آمَنَهَا	اس نے اسے (ایک عورت) ایمان لایا
هُمَا	آمَنَهُمَا	اس نے ان دونوں عورتوں کو ایمان لایا
هِنَّ	آمَنَهُنَّ	اس نے ان سب (عورتوں) کو ایمان لایا

هيَا (مذكر)		وه (دو مرد)
نِي	آمَنَانِي	ان دو مردوں نے مجھے ایمان لایا
نَا	آمَنَانَا	ان دو مردوں نے ہمیں ایمان لایا
كَ	آمَنَاكَ	ان دو مردوں نے تمہیں (ایک مرد) ایمان لایا
كُمَا	آمَنَاكُمَا	ان دو مردوں نے تم دونوں کو ایمان لایا
كُم	آمَنَاكُم	ان دو مردوں نے تم سب (مردوں) کو ایمان لایا
كَ	آمَنَاكَ	ان دو مردوں نے تمہیں (ایک عورت) ایمان لایا
كُنَّ	آمَنَاكُنَّ	ان دو مردوں نے تم سب (عورتوں) کو ایمان لایا
هُ	آمَنَاهُ	ان دو مردوں نے اسے (ایک مرد) ایمان لایا
هُمَا	آمَنَاهُمَا	ان دو مردوں نے ان دونوں کو ایمان لایا
هُمْ	آمَنَاهُمْ	ان دو مردوں نے ان سب (مردوں) کو ایمان لایا
هَا	آمَنَاهَا	ان دو مردوں نے اسے (ایک عورت) ایمان لایا
هِنَّ	آمَنَاهُنَّ	ان دو مردوں نے ان سب (عورتوں) کو ایمان لایا

ہم	وہ (سب مرد)
نِي	ان سب مردوں نے مجھے ایمان لایا
نَا	ان سب مردوں نے ہمیں ایمان لایا
كَ	ان سب مردوں نے تمہیں (ایک مرد) ایمان لایا
كُمَا	ان سب مردوں نے تم دونوں کو ایمان لایا
كُم	ان سب مردوں نے تم سب (مردوں) کو ایمان لایا
كَ	ان سب مردوں نے تمہیں (ایک عورت) ایمان لایا
كُنَّ	ان سب مردوں نے تم سب (عورتوں) کو ایمان لایا
هُ	ان سب مردوں نے اسے (ایک مرد) ایمان لایا
هُمَا	ان سب مردوں نے ان دونوں کو ایمان لایا
هُم	ان سب مردوں نے ان سب (مردوں) کو ایمان لایا
هَا	ان سب مردوں نے اسے (ایک عورت) ایمان لایا
هِنَّ	ان سب مردوں نے ان سب (عورتوں) کو ایمان لایا

ہی	وہ (ایک عورت)
نِي	اس ایک عورت نے مجھے ایمان لایا
نَا	اس ایک عورت نے ہمیں ایمان لایا
كَ	اس ایک عورت نے تمہیں (ایک مرد) ایمان لایا
كُمَا	اس ایک عورت نے تم دونوں کو ایمان لایا
كُم	اس ایک عورت نے تم سب (مردوں) کو ایمان لایا
كَ	اس ایک عورت نے تمہیں (ایک عورت) ایمان لایا
كُنَّ	اس ایک عورت نے تم سب (عورتوں) کو ایمان لایا
هُ	اس ایک عورت نے اسے (ایک مرد) ایمان لایا
هُمَا	اس ایک عورت نے ان دونوں کو ایمان لایا
هُم	اس ایک عورت نے ان سب (مردوں) کو ایمان لایا
هَا	اس ایک عورت نے اسے (ایک عورت) ایمان لایا
هِنَّ	اس ایک عورت نے ان سب (عورتوں) کو ایمان لایا

ہما (مؤنث)		وہ (دو عورتیں)
نِی	أَمْتَانِی	ان دو عورتوں نے مجھے ایمان لایا
نَا	أَمْتَانَا	ان دو عورتوں نے ہمیں ایمان لایا
ک	أَمْتَانِکَ	ان دو عورتوں نے تمہیں (ایک مرد) ایمان لایا
کَا	أَمْتَانِکَا	ان دو عورتوں نے تم دونوں کو ایمان لایا
کُر	أَمْتَانِکُر	ان دو عورتوں نے تم سب (مردوں) کو ایمان لایا
ک	أَمْتَانِکَ	ان دو عورتوں نے تمہیں (ایک عورت) ایمان لایا
کُن	أَمْتَانِکُنَّ	ان دو عورتوں نے تم سب (عورتوں) کو ایمان لایا
ہ	أَمْتَانَهُ	ان دو عورتوں نے اسے (ایک مرد) ایمان لایا
ہمَا	أَمْتَانَهُمَا	ان دو عورتوں نے ان دونوں کو ایمان لایا
ہم	أَمْتَانَهُم	ان دو عورتوں نے ان سب (مردوں) کو ایمان لایا
ہَا	أَمْتَانَهَا	ان دو عورتوں نے اسے (ایک عورت) ایمان لایا
ہنَّ	أَمْتَانَهُنَّ	ان دو عورتوں نے ان سب (عورتوں) کو ایمان لایا

ہن		وہ (سب عورتیں)
نِی	أَمْنِی	ان سب عورتوں نے مجھے ایمان لایا
نَا	أَمْنَا	ان سب عورتوں نے ہمیں ایمان لایا
ک	أَمْنِکَ	ان سب عورتوں نے تمہیں (ایک مرد) ایمان لایا
کَا	أَمْنِکَا	ان سب عورتوں نے تم دونوں کو ایمان لایا
کُر	أَمْنِکُر	ان سب عورتوں نے تم سب (مردوں) کو ایمان لایا
ک	أَمْنِکَ	ان سب عورتوں نے تمہیں (ایک عورت) ایمان لایا
کُن	أَمْنِکُنَّ	ان سب عورتوں نے تم سب (عورتوں) کو ایمان لایا
ہ	أَمْنَهُ	ان سب عورتوں نے اسے (ایک مرد) ایمان لایا
ہمَا	أَمْنَهُمَا	ان سب عورتوں نے ان دونوں کو ایمان لایا
ہم	أَمْنَهُم	ان سب عورتوں نے ان سب (مردوں) کو ایمان لایا
ہَا	أَمْنَهَا	ان سب عورتوں نے اسے (ایک عورت) ایمان لایا
ہنَّ	أَمْنَهُنَّ	ان سب عورتوں نے ان سب (عورتوں) کو ایمان لایا

آنت	تم (ایک مرد)	آنتما	تم دونوں (مرد/عورت)
نِی	آمَنْتَنِی تم (ایک مرد) نے مجھے ایمان لایا	نِی	آمَنْتَمَانِی تم دونوں نے مجھے ایمان لایا
نَا	آمَنْتَنَّا تم (ایک مرد) نے ہمیں ایمان لایا	نَا	آمَنْتَمَانَا تم دونوں نے ہمیں ایمان لایا
ہ	آمَنْتَهُ تم (ایک مرد) نے اسے (ایک مرد) ایمان لایا	ہ	آمَنْتَمَاهُ تم دونوں نے اسے (ایک مرد) ایمان لایا
ہمَا	آمَنْتَهُمَا تم (ایک مرد) نے ان دونوں کو ایمان لایا	ہمَا	آمَنْتَمَاهُمَا تم دونوں نے ان دونوں کو ایمان لایا
ہم	آمَنْتَهُمْ تم (ایک مرد) نے ان سب (مردوں) کو ایمان لایا	ہم	آمَنْتَمَاهُمْ تم دونوں نے ان سب (مردوں) کو ایمان لایا
ہَا	آمَنْتَهَا تم (ایک مرد) نے اسے (ایک عورت) ایمان لایا	ہَا	آمَنْتَمَاهَا تم دونوں نے اسے (ایک عورت) ایمان لایا
ہن	آمَنْتَهُنَّ تم (ایک مرد) نے ان سب (عورتوں) کو ایمان لایا	ہن	آمَنْتَمَاهُنَّ تم دونوں نے ان سب (عورتوں) کو ایمان لایا

آتم	تم سب (مرد)	آنت	تم (ایک عورت)
نِی	آمَنْتَمُونِی تم سب (مردوں) نے مجھے ایمان لایا	نِی	آمَنْتَنِی تم (ایک عورت) نے مجھے ایمان لایا
نَا	آمَنْتَمُونَا تم سب (مردوں) نے ہمیں ایمان لایا	نَا	آمَنْتَنَّا تم (ایک عورت) نے ہمیں ایمان لایا
ہ	آمَنْتَمُوهُ تم سب (مردوں) نے اسے (ایک مرد) ایمان لایا	ہ	آمَنْتَهُ تم (ایک عورت) نے اسے (ایک مرد) ایمان لایا
ہمَا	آمَنْتَمُوهُمَا تم سب (مردوں) نے ان دونوں کو ایمان لایا	ہمَا	آمَنْتَهُمَا تم (ایک عورت) نے ان دونوں کو ایمان لایا
ہم	آمَنْتَمُوهُمْ تم سب (مردوں) نے ان سب (مردوں) کو ایمان لایا	ہم	آمَنْتَهُمْ تم (ایک عورت) نے ان سب (مردوں) کو ایمان لایا
ہَا	آمَنْتَمُوهَا تم سب (مردوں) نے اسے (ایک عورت) ایمان لایا	ہَا	آمَنْتَهَا تم (ایک عورت) نے اسے (ایک عورت) ایمان لایا
ہن	آمَنْتَمُوهُنَّ تم سب (مردوں) نے ان سب (عورتوں) کو ایمان لایا	ہن	آمَنْتَهُنَّ تم (ایک عورت) نے ان سب (عورتوں) کو ایمان لایا

انتن	تم سب (عورتیں)	میں
نِی	آمَنْتِنِی	میں نے تمہیں (ایک مرد) ایمان لایا
نَا	آمَنْتِنَا	میں نے تم دونوں کو ایمان لایا
ہ	آمَنْتِنْہ	میں نے تم سب (مردوں) کو ایمان لایا
ہمَا	آمَنْتِنِہمَا	میں نے تمہیں (ایک عورت) ایمان لایا
ہم	آمَنْتِنْہم	میں نے تم سب (عورتوں) کو ایمان لایا
ہَا	آمَنْتِنِہَا	میں نے اسے (ایک مرد) ایمان لایا
ہن	آمَنْتِنِہن	میں نے ان دونوں کو ایمان لایا
ہم	آمَنْتِنْہم	میں نے ان سب (مردوں) کو ایمان لایا
ہَا	آمَنْتِنِہَا	میں نے اسے (ایک عورت) ایمان لایا
ہن	آمَنْتِنِہن	میں نے ان سب (عورتوں) کو ایمان لایا

تحن	ہم
ک	آمَنْتَک
کَا	آمَنْتَکَا
کُہ	آمَنْتَکُہ
ک	آمَنْتَک
کُن	آمَنْتَکُن
ہ	آمَنْتَہ
ہمَا	آمَنْتَہمَا
ہم	آمَنْتَہم
ہَا	آمَنْتَہَا
ہن	آمَنْتَہن

الجدول الإسنادي — المضارع

RELATIONAL MAPPING — PRESENT

هو		وہ (ایک مرد)
نِي	يُؤْمِنُنِي	وہ مجھے ایمان لاتا ہے
نَا	يُؤْمِنُنَا	وہ ہمیں ایمان لاتا ہے
كَ	يُؤْمِنُكَ	وہ تمہیں (ایک مرد) ایمان لاتا ہے
كُمَا	يُؤْمِنُكُمَا	وہ تم دونوں کو ایمان لاتا ہے
كُم	يُؤْمِنُكُمْ	وہ تم سب (مردوں) کو ایمان لاتا ہے
كَ	يُؤْمِنُكَ	وہ تمہیں (ایک عورت) ایمان لاتا ہے
كُنَّ	يُؤْمِنُكُنَّ	وہ تم سب (عورتوں) کو ایمان لاتا ہے
ه	يُؤْمِنُهُ	وہ اسے (ایک مرد) ایمان لاتا ہے
هُمَا	يُؤْمِنُهُمَا	وہ ان دونوں کو ایمان لاتا ہے
هُمْ	يُؤْمِنُهُمْ	وہ ان سب (مردوں) کو ایمان لاتا ہے
هَا	يُؤْمِنُهَا	وہ اسے (ایک عورت) ایمان لاتا ہے
هُمَا	يُؤْمِنُهُمَا	وہ ان دونوں عورتوں کو ایمان لاتا ہے
هِنَّ	يُؤْمِنُهُنَّ	وہ ان سب (عورتوں) کو ایمان لاتا ہے

ہیّا (مذکر)		وہ (دو مرد)
نِي	يُؤْمِنَانِي	وہ دو مرد مجھے ایمان لاتے ہیں
نَا	يُؤْمِنَانَا	وہ دو مرد ہمیں ایمان لاتے ہیں
كَ	يُؤْمِنَاكَ	وہ دو مرد تمہیں (ایک مرد) ایمان لاتے ہیں
كُمَا	يُؤْمِنَاكُمَا	وہ دو مرد تم دونوں کو ایمان لاتے ہیں
كُم	يُؤْمِنَاكُمْ	وہ دو مرد تم سب (مردوں) کو ایمان لاتے ہیں
كَ	يُؤْمِنَاكَ	وہ دو مرد تمہیں (ایک عورت) ایمان لاتے ہیں
كُنَّ	يُؤْمِنَاكُنَّ	وہ دو مرد تم سب (عورتوں) کو ایمان لاتے ہیں
ه	يُؤْمِنَاهُ	وہ دو مرد اسے (ایک مرد) ایمان لاتے ہیں
هُمَا	يُؤْمِنَاهُمَا	وہ دو مرد ان دونوں کو ایمان لاتے ہیں
هُمْ	يُؤْمِنَاهُمْ	وہ دو مرد ان سب (مردوں) کو ایمان لاتے ہیں
هَا	يُؤْمِنَاهَا	وہ دو مرد اسے (ایک عورت) ایمان لاتے ہیں
هِنَّ	يُؤْمِنَاهُنَّ	وہ دو مرد ان سب (عورتوں) کو ایمان لاتے ہیں

ہم	وہ (سب مرد)	
نِي	يُؤْمِنُونِي	وہ سب مرد مجھے ایمان لاتے ہیں
نَا	يُؤْمِنُونَا	وہ سب مرد ہمیں ایمان لاتے ہیں
كَ	يُؤْمِنُونَكَ	وہ سب مرد تمہیں (ایک مرد) ایمان لاتے ہیں
كُمَا	يُؤْمِنُونَكُمَا	وہ سب مرد تم دونوں کو ایمان لاتے ہیں
كُم	يُؤْمِنُونَكُمْ	وہ سب مرد تم سب (مردوں) کو ایمان لاتے ہیں
كَ	يُؤْمِنُونَكَ	وہ سب مرد تمہیں (ایک عورت) ایمان لاتے ہیں
كُنَّ	يُؤْمِنُونَكُنَّ	وہ سب مرد تم سب (عورتوں) کو ایمان لاتے ہیں
ه	يُؤْمِنُونَهُ	وہ سب مرد اسے (ایک مرد) ایمان لاتے ہیں
هُمَا	يُؤْمِنُونَهُمَا	وہ سب مرد ان دونوں کو ایمان لاتے ہیں
هُمْ	يُؤْمِنُونَهُمْ	وہ سب مرد ان سب (مردوں) کو ایمان لاتے ہیں
هَا	يُؤْمِنُونَهَا	وہ سب مرد اسے (ایک عورت) ایمان لاتے ہیں
هِنَّ	يُؤْمِنُونَهُنَّ	وہ سب مرد ان سب (عورتوں) کو ایمان لاتے ہیں

ہي	وہ (ایک عورت)	
نِي	تُؤْمِنُونِي	وہ ایک عورت مجھے ایمان لاتی ہے
نَا	تُؤْمِنُونَا	وہ ایک عورت ہمیں ایمان لاتی ہے
كَ	تُؤْمِنُونَكَ	وہ ایک عورت تمہیں (ایک مرد) ایمان لاتی ہے
كُمَا	تُؤْمِنُونَكُمَا	وہ ایک عورت تم دونوں کو ایمان لاتی ہے
كُم	تُؤْمِنُونَكُمْ	وہ ایک عورت تم سب (مردوں) کو ایمان لاتی ہے
كَ	تُؤْمِنُونَكَ	وہ ایک عورت تمہیں (ایک عورت) ایمان لاتی ہے
كُنَّ	تُؤْمِنُونَكُنَّ	وہ ایک عورت تم سب (عورتوں) کو ایمان لاتی ہے
ه	تُؤْمِنُونَهُ	وہ ایک عورت اسے (ایک مرد) ایمان لاتی ہے
هُمَا	تُؤْمِنُونَهُمَا	وہ ایک عورت ان دونوں کو ایمان لاتی ہے
هُمْ	تُؤْمِنُونَهُمْ	وہ ایک عورت ان سب (مردوں) کو ایمان لاتی ہے
هَا	تُؤْمِنُونَهَا	وہ ایک عورت اسے (ایک عورت) ایمان لاتی ہے
هِنَّ	تُؤْمِنُونَهُنَّ	وہ ایک عورت ان سب (عورتوں) کو ایمان لاتی ہے

ہما (مؤنث)		وہ (دو عورتیں)
نِی	تُؤْمِنَانِی	وہ دو عورتیں مجھے ایمان لاتی ہیں
نَا	تُؤْمِنَانَا	وہ دو عورتیں ہمیں ایمان لاتی ہیں
کَک	تُؤْمِنَاکَک	وہ دو عورتیں تمہیں (ایک مرد) ایمان لاتی ہیں
کَاکَا	تُؤْمِنَاکَاکَا	وہ دو عورتیں تم دونوں کو ایمان لاتی ہیں
کُرکُر	تُؤْمِنَاکُرکُر	وہ دو عورتیں تم سب (مردوں) کو ایمان لاتی ہیں
کَک	تُؤْمِنَاکَک	وہ دو عورتیں تمہیں (ایک عورت) ایمان لاتی ہیں
کُنکُن	تُؤْمِنَاکُنکُن	وہ دو عورتیں تم سب (عورتوں) کو ایمان لاتی ہیں
ہ	تُؤْمِنَاهُ	وہ دو عورتیں اسے (ایک مرد) ایمان لاتی ہیں
ہَمَا	تُؤْمِنَاهَمَا	وہ دو عورتیں ان دونوں کو ایمان لاتی ہیں
ہُمہُم	تُؤْمِنَاهُمہُم	وہ دو عورتیں ان سب (مردوں) کو ایمان لاتی ہیں
ہَاہَا	تُؤْمِنَاهَاہَا	وہ دو عورتیں اسے (ایک عورت) ایمان لاتی ہیں
ہَنہَن	تُؤْمِنَاهَنہَن	وہ دو عورتیں ان سب (عورتوں) کو ایمان لاتی ہیں

ہن		وہ (سب عورتیں)
نِی	یُؤْمِنَانِی	وہ سب عورتیں مجھے ایمان لاتی ہیں
نَا	یُؤْمِنَانَا	وہ سب عورتیں ہمیں ایمان لاتی ہیں
کَک	یُؤْمِنَاکَک	وہ سب عورتیں تمہیں (ایک مرد) ایمان لاتی ہیں
کَاکَا	یُؤْمِنَاکَاکَا	وہ سب عورتیں تم دونوں کو ایمان لاتی ہیں
کُرکُر	یُؤْمِنَاکُرکُر	وہ سب عورتیں تم سب (مردوں) کو ایمان لاتی ہیں
کَک	یُؤْمِنَاکَک	وہ سب عورتیں تمہیں (ایک عورت) ایمان لاتی ہیں
کُنکُن	یُؤْمِنَاکُنکُن	وہ سب عورتیں تم سب (عورتوں) کو ایمان لاتی ہیں
ہ	یُؤْمِنَاهُ	وہ سب عورتیں اسے (ایک مرد) ایمان لاتی ہیں
ہَمَا	یُؤْمِنَاهَمَا	وہ سب عورتیں ان دونوں کو ایمان لاتی ہیں
ہُمہُم	یُؤْمِنَاهُمہُم	وہ سب عورتیں ان سب (مردوں) کو ایمان لاتی ہیں
ہَاہَا	یُؤْمِنَاهَاہَا	وہ سب عورتیں اسے (ایک عورت) ایمان لاتی ہیں
ہَنہَن	یُؤْمِنَاهَنہَن	وہ سب عورتیں ان سب (عورتوں) کو ایمان لاتی ہیں

تَمَّ (ایک مرد)	أَنْتَ	تَمَّ دُونُوں (مرد/ عورت)	أَنْتُمَا
تَمَّ (ایک مرد) مجھے ایمان لاتے ہو	نِي	تَمَّ دُونُوں مجھے ایمان لاتے ہو	نِي
تَمَّ (ایک مرد) ہمیں ایمان لاتے ہو	نَا	تَمَّ دُونُوں ہمیں ایمان لاتے ہو	نَا
تَمَّ (ایک مرد) اسے (ایک مرد) ایمان لاتے ہو	هُ	تَمَّ دُونُوں اسے (ایک مرد) ایمان لاتے ہو	هُ
تَمَّ (ایک مرد) ان دونوں کو ایمان لاتے ہو	هُمَا	تَمَّ دُونُوں ان دونوں کو ایمان لاتے ہو	هُمَا
تَمَّ (ایک مرد) ان سب (مردوں) کو ایمان لاتے ہو	هُمْ	تَمَّ دُونُوں ان سب (مردوں) کو ایمان لاتے ہو	هُمْ
تَمَّ (ایک مرد) اسے (ایک عورت) ایمان لاتے ہو	هَا	تَمَّ دُونُوں اسے (ایک عورت) ایمان لاتے ہو	هَا
تَمَّ (ایک مرد) ان سب (عورتوں) کو ایمان لاتے ہو	هِنَّ	تَمَّ دُونُوں ان سب (عورتوں) کو ایمان لاتے ہو	هِنَّ

تَمَّ سَبَّ (مرد)	أَنْتُمْ	تَمَّ (ایک عورت)	أَنْتِ
تَمَّ سَبَّ (مرد) مجھے ایمان لاتے ہو	نِي	تَمَّ (ایک عورت) مجھے ایمان لاتی ہو	نِي
تَمَّ سَبَّ (مرد) ہمیں ایمان لاتے ہو	نَا	تَمَّ (ایک عورت) ہمیں ایمان لاتی ہو	نَا
تَمَّ سَبَّ (مرد) اسے (ایک مرد) ایمان لاتے ہو	هُ	تَمَّ (ایک عورت) اسے (ایک مرد) ایمان لاتی ہو	هُ
تَمَّ سَبَّ (مرد) ان دونوں کو ایمان لاتے ہو	هُمَا	تَمَّ (ایک عورت) ان دونوں کو ایمان لاتی ہو	هُمَا
تَمَّ سَبَّ (مرد) ان سب (مردوں) کو ایمان لاتے ہو	هُمْ	تَمَّ (ایک عورت) ان سب (مردوں) کو ایمان لاتی ہو	هُمْ
تَمَّ سَبَّ (مرد) اسے (ایک عورت) ایمان لاتے ہو	هَا	تَمَّ (ایک عورت) اسے (ایک عورت) ایمان لاتی ہو	هَا
تَمَّ سَبَّ (مرد) ان سب (عورتوں) کو ایمان لاتے ہو	هِنَّ	تَمَّ (ایک عورت) ان سب (عورتوں) کو ایمان لاتی ہو	هِنَّ

انتن	تم سب (عورتیں)
نِي	تَمَّ سَبَّ (عورتیں) مجھے ایمان لاتی ہو
نَا	تَمَّ سَبَّ (عورتیں) ہمیں ایمان لاتی ہو
هُ	تَمَّ سَبَّ (عورتیں) اسے (ایک مرد) ایمان لاتی ہو
هَمَّا	تَمَّ سَبَّ (عورتیں) ان دونوں کو ایمان لاتی ہو
هَمَّ	تَمَّ سَبَّ (عورتیں) ان سب (مردوں) کو ایمان لاتی ہو
هَا	تَمَّ سَبَّ (عورتیں) اسے (ایک عورت) ایمان لاتی ہو
هِنَّ	تَمَّ سَبَّ (عورتیں) ان سب (عورتوں) کو ایمان لاتی ہو

اننا	میں
كَ	میں تمہیں (ایک مرد) ایمان لاتا/ لاتی ہوں
كُنَّا	میں تم دونوں کو ایمان لاتا/ لاتی ہوں
كُمُ	میں تم سب (مردوں) کو ایمان لاتا/ لاتی ہوں
كَ	میں تمہیں (ایک عورت) ایمان لاتا/ لاتی ہوں
كُنَّ	میں تم سب (عورتوں) کو ایمان لاتا/ لاتی ہوں
هُ	میں اسے (ایک مرد) ایمان لاتا/ لاتی ہوں
هَمَّا	میں ان دونوں کو ایمان لاتا/ لاتی ہوں
هَمَّ	میں ان سب (مردوں) کو ایمان لاتا/ لاتی ہوں
هَا	میں اسے (ایک عورت) ایمان لاتا/ لاتی ہوں
هِنَّ	میں ان سب (عورتوں) کو ایمان لاتا/ لاتی ہوں

نَحْنُ	ہم
كَ	ہم تمہیں (ایک مرد) ایمان لاتے ہیں
كُنَّا	ہم تم دونوں کو ایمان لاتے ہیں
كُمُ	ہم تم سب (مردوں) کو ایمان لاتے ہیں
كَ	ہم تمہیں (ایک عورت) ایمان لاتے ہیں
كُنَّ	ہم تم سب (عورتوں) کو ایمان لاتے ہیں
هُ	ہم اسے (ایک مرد) ایمان لاتے ہیں
هَمَّا	ہم ان دونوں کو ایمان لاتے ہیں
هَمَّ	ہم ان سب (مردوں) کو ایمان لاتے ہیں
هَا	ہم اسے (ایک عورت) ایمان لاتے ہیں
هِنَّ	ہم ان سب (عورتوں) کو ایمان لاتے ہیں

USAGE EXAMPLES — PAST

مثالیں — ماضی

I

أَنَا آمَنْتُ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ.

میں نے اللہ، اس کے فرشتوں، کتابوں، رسولوں اور آخرت کے دن پر ایمان لایا۔

I believed in Allah, His angels, His books, His messengers, and the Last Day.

We

نَحْنُ آمَنَّا بِالْقُرْآنِ وَاتَّبَعْنَا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ.

ہم نے قرآن پر ایمان لایا اور جو اللہ نے اس میں نازل کیا اس کی پیروی کی۔

We believed in the Quran and followed what Allah revealed in it.

You (m)

أَنْتَ آمَنْتَ بِاللَّهِ حِينَ سَمِعْتَ آيَاتِهِ فَهَدَاكَ اللَّهُ.
تم نے اللہ پر ایمان لایا جب اس کی آیات سنیں تو اللہ نے تمہیں ہدایت دی۔
You believed in Allah when you heard His verses, so Allah guided you.

You (f)

أَنْتِ آمَنْتِ وَصَبَرْتِ عَلَى الْأَذَى فَآتَاكَ اللَّهُ.
تم نے ایمان لایا اور تکلیف پر صبر کیا تو اللہ نے تمہیں ثواب دیا۔
You believed and were patient with harm, so Allah rewarded you.

He

هُوَ آمَنَ بِاللَّهِ وَتَرَكَ عِبَادَةَ الْأَصْنَامِ فَجَاءَهُ اللَّهُ.
اس نے اللہ پر ایمان لایا اور بتوں کی عبادت چھوڑ دی تو اللہ نے اسے بچایا۔
He believed in Allah and left idol worship, so Allah saved him.

She

هِيَ آمَنْتُ بِقَلْبِهَا وَأَعْلَنْتُ إِسْلَامَهَا أَمَامَ الْجَمِيعِ.
اس نے دل سے ایمان لایا اور سب کے سامنے اسلام کا اعلان کیا۔
She believed with her heart and announced her Islam before everyone.

They two

هُمَا آمَنَا وَهَاجَرَا مِنْ دِيَارِهِمَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ.
ان دونوں نے ایمان لایا اور اللہ کی راہ میں اپنے وطن سے ہجرت کی۔
They both believed and emigrated from their homes in the cause of Allah.

They (m)

هُمْ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا
الْأَنْهَارُ.
انہوں نے ایمان لایا اور نیک عمل کیے تو ان کے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی
ہیں۔
They believed and did righteous deeds, so for them are gardens beneath
which rivers flow.

You all (m)

أَنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَبِرِسَالَةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
تم سب نے اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لایا۔
You all believed in Allah and in the message of Muhammad (peace be upon
him).

They (f)

هُنَّ آمَنَ بِاللَّهِ وَالتَّزَمْنَ بِالْحِجَابِ طَاعَةً لِأَمْرِ اللَّهِ.
انہوں نے اللہ پر ایمان لایا اور اللہ کے حکم کی اطاعت میں حجاب اختیار کیا۔
They believed in Allah and committed to hijab in obedience to Allah's
command.

USAGE EXAMPLES — PRESENT

مثالیں — مضارع

I

أَنَا أُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْوَاحِدِ الْأَحَدِ وَلَا أُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا.
میں اللہ واحد و احد پر ایمان رکھتا ہوں اور کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔
I believe in Allah, the One and Only, and I do not associate anything with
Him.

We

نَحْنُ نُؤْمِنُ بِالْقَضَاءِ وَالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ.
ہم اللہ کی قضا و قدر پر ایمان رکھتے ہیں اس کے خیر اور شر دونوں میں۔
We believe in the divine decree, its good and its bad, from Allah.

You (m)

أَنْتَ تُؤْمِنُ بِالْغَيْبِ وَتُصَلِّي وَتُنْفِقُ مِمَّا رَزَقَكَ اللَّهُ.
تم غیب پر ایمان رکھتے ہو، نماز پڑھتے ہو اور اللہ کے دیے ہوئے سے خرچ کرتے ہو۔
You believe in the unseen, pray, and spend from what Allah has provided
you.

You (f)

أَنْتِ تُؤْمِنِينَ بِوَعْدِ اللَّهِ وَتَصْبِرِينَ عَلَى الْإِتِّبَاءِ.
تم اللہ کے وعدے پر ایمان رکھتی ہو اور آزمائش پر صبر کرتی ہو۔
You believe in Allah's promise and are patient during trials.

He

هُوَ يُؤْمِنُ بِكُلِّ مَا جَاءَ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ بِلا تَفْرِيقٍ.
وہ بغیر تفریق کے قرآن و سنت میں جو کچھ آیا اس پر ایمان رکھتا ہے۔

He believes in everything that came in the Book and the Sunnah without distinction.

She

هِيَ تُوْمِنُ بِأَنَّ اللَّهَ سَيُفْرِجُ كَرْبَهَا وَيَسِّرُ أَمْرَهَا.
وہ ایمان رکھتی ہے کہ اللہ اس کی مشکل دور کرے گا اور معاملات آسان کرے گا۔

She believes that Allah will relieve her distress and ease her affairs.

They two

هُمَا يُؤْمِنَانِ بِالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْحِسَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.
وہ دونوں موت کے بعد اٹھائے جانے اور قیامت کے دن حساب پر ایمان رکھتے ہیں۔

They both believe in resurrection after death and accountability on the Day of Judgement.

They (m)

هُمْ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَيَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ.
وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں تو ان کے لیے عظیم اجر ہے۔

They believe in Allah and do righteous deeds, so for them is a great reward.

You all (m)

أَنْتُمْ تُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَتَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ.
تم سب اللہ پر ایمان رکھتے ہو، نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔

You all believe in Allah, enjoin good, and forbid evil.

They (f)

هُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَيَتَعَلَّمْنَ الدِّينَ بِجِدِّ وَاجْتِهَادٍ.
وہ اللہ پر ایمان رکھتی ہیں اور سنجیدگی و محنت سے دین سیکھتی ہیں۔

They believe in Allah and learn the religion with seriousness and diligence.

VOCABULARY

المفردات

الْإِيمَانُ

ایمان

faith / belief

الْمُؤْمِنُ

مومن

believer

الْغَيْبُ

غیب

the unseen

الْقَضَاءُ

قضا / فیصلہ

divine decree

الْقَدَرُ

تقدیر

destiny / predestination

الْبَعْثُ

دوبارہ اٹھایا جانا

resurrection

الْحِسَابُ

حساب

accountability / reckoning

الْمَلَائِكَةُ

فرشتے

angels

الرُّسُلُ

رسول

messengers

الْإِبْتِلَاءُ

آزمائش

trial / test

الْأَصْنَامُ

بت

idols

الْكَرْبُ

مشکل / پریشانی

distress / anguish

الْمَعْرُوفُ

نیکی / بھلائی

good / virtue

التَّفْرِيقُ

تفریق / فرق کرنا

distinction / differentiation

الرِّسَالَةُ

رسالت / پیغام

message / messengership